

بجلی منقطع ہونے کے دوران حفاظت

بجلی کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ چاہے آپ
کے پاس منٹوں، گھنٹوں یا دنوں تک بھی
بجلی نہ ہو
– گئے مشوروں پر عمل کر کے محفوظ رہیں!


اپنی **ہنگامی تیاری** کی کٹ کو بھر کر رکھیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ
کے پاس روشنی کا پورٹیبل ذریعہ (فلیش لائٹس، موم بتی، گلو
اسٹکس)، اضافی بیٹریاں اور نہ خراب ہونے والا کھانا اور کافی
مقدار میں پینے کے قابل پانی موجود ہو۔



آپ کے علاقے میں کئی **گری ہوئی / کرنٹ والی بجلی کی تاریں** ہو
سکتی ہیں۔ خود کو اور دوسروں کو ان سے کم از کم 10 میٹر دور
رکھیں (تقریباً اسکول بس کی لمبائی کے برابر)۔ **بوشیار رہیں**: کئی
دنوں سے گری ہوئی تاروں میں اب بھی کرنٹ موجود ہو سکتا ہے۔



کھانے کی حفاظت کریں! بجلی کے جانے کے دوران کھانے کی
حفاظت کے لیے ریفریجریٹر کا دروازہ بند رکھیں۔ گھر کے اندر
چارکول یا گیس باربی کیو، کیمپنگ اسٹو یا جنریٹر کا استعمال
کبھی نہ کریں۔



جانے کہ کب جانا ہے۔ اگر آپ کا گھر بہت ٹھنڈا یا بہت گرم ہو
جائے اور آپ گھر چھوڑنے کے قابل ہوں، تو متبادل جگہ پر چلے جائیں
جب تک واپس جانا محفوظ نہ ہو۔ گھرانے کے تمام افراد (بشمول
پالتو جانوروں) کو اپنے ساتھ لے جائیں۔

